

تجارتی اشیاء کی پبلسٹی ۔ سلام کا نقطہ نظر

ڈاکٹر کمال اشرف قاسمی

عقائد و عبادات کی طرح معاملات بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے۔ جس طرح عقائد اور عبادات کے بارے میں احکام و جزئیات بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح شریعتِ اسلامی نے معاملات سے متعلق جزوی اور کلی تفصیلات فراہم کی ہیں اور ان کے حلال و حرام، مکروہ و غیر مکروہ اور جائز و طیب و نے کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں:

وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْأَبْرَارَ □ عَوْنَاحَمَ الزِّبَا (البقرة: ۲۷۵)

(اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَإِذْ كُرُوا اللَّهُ أَكْبَرُ الْعَلَمُكُمْ تَفْلِحُونَ (الجمعة: ۱۰)

(پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں چھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل

تلاش کرو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، تاکہ تمہارا بھلا ہو۔)

طلب الحلال واجب على كل مسلم۔ ۱

(حلال روزی تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔)

ایک دوسری حدیث میں مذکور ہے:

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فِرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفِرِيْضَةِ۔ ۲

(حلال رزق کمانا بھی دیگر فرض کی طرح فرض ہے۔)

ایک حدیث حضرت مقدمہ[ؐ] سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
ما اکلَ أَحَدَ طَعَامًا قُطٍّ خَبِيرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدُهُ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ
دَاؤْ دَعْلِيهِ السَّلَامَ كَانَ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدُهُ۔ ۳

(آدمی کا اپنے باقہ کا کمایا ہوا کھانا سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی
داو دعلیہ السلام بھی اپنے باقہ کی کمائی سے کھاتے تھے۔)

تجارت کسب معاش کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر تجارت شرعی اصول کے
مطابق کی جائے تو وہ دنیوی اعتبار سے بھی نفع بخش ہوگی اور اخروی اعتبار سے بھی
بڑے اجر و ثواب کا موجب ہوگی۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

التاجر الصدقون الامين مع النبيين والصديقين والشهداء۔ ۴
(چا اور مانت دار تاجر [روز قیامت] انبياء، صدقين اور شهداء کے
ساتھ ہوگا)

انسان کی نظرت میں داخل ہے کہ وہ فائدے کی چیز کو ترقی دینا اور اس
میں دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ لہذا تاجر کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی
تجارت با عمروج پر پہنچ جائے۔ اس کے لیے وہ اشتہار (Advertisement) کا
سہارا لیتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ اپنی تجارت کو عوام الناس کے سامنے کیسے بہتر ڈھنگ
سے پیش کرے کہ وہ اس کی مصنوعات (Products) خریدیں۔

اشتہار کا مطلب ہے کہ کسی بھی ذریعے سے لوگوں کو اپنی مصنوعات
(Services) یا خدمات (Products) کے بارے میں مطلع کیا جائے تاکہ ان کی دل
چھپی میں اضافہ ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو خریدیں یا ان خدمات کو حاصل کریں۔

اشتہاری ذرائع

اشتہار کے لیے عموماً یہی ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جاتا ہے جن کے ذریعے
جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مصنوعات کا تعارف ہو جائے۔ اس کے لیے
ایسا اسلوب اور طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو موثر ترین ہو، مثلاً پرنٹ میڈیا، جیسے
اخبارات، جرائد و رسائل اور پمپلٹ وغیرہ میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، جو ہر روز

لاکھوں لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچتے ہیں۔ اسی طرح الکٹرانک میڈیا، جیسے ٹی وی، ریڈیو اور انٹرنیٹ وغیرہ پر مصنوعات کی تعریف کے لیے عبارت، مکالمہ یا کوئی شارٹ فلم بنائے کر پیش کی جاتی ہے، جسے کروڑوں لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اشتہار کے لیے سائن بورڈ (Sign Board) کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، جسے کسی ایسی جگہ نصب کیا جاتا ہے جہاں سے کثیر تعداد میں لوگوں کا گزر ہو، جیسے سڑکوں کے کنارے، یا چوراہوں میں بڑی بڑی عمارتوں پر یا بازاروں میں۔ اس کے علاوہ دیگر واسطوں جیسے کلینیک اور ڈائری وغیرہ کو بھی پبلیٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

اشتہار کے اقتصادی اثرات

مصنوعات کی پبلیٹی اور اقتصادی ترقی کے لیے اشتہار مذکور ترین وسیلہ ہے، جو کمپنی کی مصنوعات کی مانگ بڑھانے، ان کو پھیلانے اور بیچنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار نئی مصنوعات پر ضخیم سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے۔ انہیں متعارف کرانے اور صارفین کی نظر میں انہیں وقعت دینے میں تشویش کا بڑا موثر کردار ہوتا ہے۔ بسا اوقات اشتہار کے بغیر نئی پروڈکٹ کو ترویج نہیں ملتی اور کمپنی خسارے کا شکار ہو جاتی ہے۔

دوسری طرف اشتہار کا فائدہ اخبارات، رسائل اور میڈیا والوں کو بھی پہنچتا ہے، جن کی اکثر آدمی اشتہارات کے معاوضہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں عوام کا بھی فائدہ ہے، کیوں کہ اگر پرنٹ میڈیا یا الکٹرانک میڈیا والے اشتہار کا معاوضہ نہ لیتے تو اخبارات و رسائل اور دیگر ذرائع ابلاغ اتنے سستے اور کم قیمت میں لوگوں تک نہ پہنچتے۔ اسی طرح مختلف انواع کی مصنوعات میں فرق اور ان کی دست یابی کے مقامات اور بنانے والوں کے بارے میں معلومات اشتہارات کے وسیلے ہی سے حاصل ہوتی ہیں اور ہر فرد کو اپنی وسعت کے مطابق ضرورت کی چیزوں تک رسائی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اشتہار کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ بعض ادارے اور کمپنیاں اشتہاروں پر حد سے زیادہ سرمایہ خرچ کرتی ہے اور اس سلسلے کے سارے اخراجات وہ پروڈکٹ کی قیمت میں شامل کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اگر

اس سلسلے میں میانہ روی سے کام لیا جائے تو یہ خرابی بہت حد تک کم ہو سکتی ہے۔

اشتہار کے شرعی حدود

مصنوعات (Products) کو فروخت کرنے اور خدمات (Services)

کے لیے ان کی پبلیٹی کرنا، تاکہ وہ لوگوں کے علم میں آجائیں اور اگر وہ ان کو فراہم کرنا چاہیں تو حاصل کر سکیں، بذات خود جائز، بلکہ مستحسن ہے۔ متعدد احادیث سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

حضرت انسؓ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی، جن کا نام زاہر تھا، دیبات میں رہتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سے ان کے روابط تھے۔ وہ آپؐ کے لیے دیبات سے ہدایا لایا کرتے اور جواب میں آپؐ بھی انہیں تحفے تھائے سے نوازتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بازار میں کوئی سامان فروخت کر رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ ادھر سے گزرے تو انہیں پیچھے سے کپڑا لیا کہ وہ آپؐ کو دیکھنے سکیں۔ وہ کہنے لگے: مجھے چھوڑو۔ کون ہے؟ مڑ کر دیکھا تو نبی ﷺ تھے۔ تب وہ اپنی پیٹھ پر آپؐ کے سینے سے رگڑنے لگے۔ آپؐ نے انہیں پکڑ کر فرمایا: کون اس غلام کو خریدے گا؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری زیادہ قیمت نہیں لگے گی۔ رسول اللہؐ نے فرمایا: لیکن اللہ کے نزدیک تم بڑے قیمتی ہو۔ ۵

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک مرتبہ کوفہ کے بازار میں اپنی تلوار لہرا کر اعلان کیا: ”کون ہے جو مجھ سے یہ تلوار خریدے گا؟“ ۶

شیخ یسین بن طلانے پبلیٹی کے جواز پر یہ دلیل دی ہے:

الاعلان والدعایة فيهما شبه بعمل الدلال، وهو من يعرف

بمكان السلعة وصاحبها، وينادي في الأسواق عليها، وقد أجاز

أهل العلم عمل الدلال، جرى على ذلك عمل المسلمين، ولم

ينقل انكاره عن أحد من أهل العلم. وهذا يدل على أنها أى

الدلالة من الأعمال المشروعة الرائحة المتوارثة

بلانكير۔ ۷

(اعلان اور پبلیٹی کا کام ایک طرح سے ایجنت کے عمل کے مشابہ ہے، کیوں کہ ایجنت بھی مصنوعات (Products) کی صفات پیان کرتا ہے، گاہک کو ترغیب دے کر مصنوعات کے دست یاب ہونے کے مقامات کی طرف راہ نمائی کرتا ہے اور فروخت کنندہ کے لیے خریدار مہیا کرتا ہے۔ اشتہار کا بنیادی مقصد بھی تقریباً یہی ہے۔ ایجنت کے کام کے جائز ہونے پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا شمار جائز کاموں میں ہوتا ہے۔ اس پر کبھی نگیر نہیں کی گئی۔)

مصنوعات کی خوبیاں اور خرابیاں

یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ اشتہارات دنیا میں مصنوعات اور خدمات وغیرہ کی ترویج کا ہم وسیلہ ہیں اور یہ چیز سماج کی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے، لیکن اشتہارات کی ایک بڑی تعداد فحاشی، موسیقی اور اس جیسی دیگر شرعی خرابیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔

اشتہار کے جواز کی سب سے بہتری اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جن مصنوعات کی پبلیٹی مقصود ہو وہ حلال ہوں، اشتہار کے وقت کسی چیز کی محض اطلاع دینا مقصود ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے عیوب کا بھی ذکر کیا جائے، البتہ جب عملًا خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہو تو اس وقت خریدار کو اس کے عیوب کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔

لیکن اگر پبلیٹی کے ذریعہ کسی چیز کا مکمل تعارف کرانا بھی مقصود ہو، جس میں اس چیز کی خصوصیات (Characteristics) اور فوائد کا ذکر کیا جا رہا ہو تو اس کی درست صفات (Original Qualities) کا تذکرہ ضروری ہے۔ جھوٹ بول کر اس کی کسی ایسی کواليٰ کا ذکر کرنا جائز نہ ہوگا جو درحقیقت اس میں پائی ہی نہ جاتی ہو۔ اس وقت اس چیز کے اندر پائے جانے والے عیوب کا حقیقت پسندی سے تذکرہ کرنا ازحد ضروری ہوگا۔ کیوں کہ اگر اس وقت اس کے عیوب نہ بتائے گئے تو خریدار اس کے صرف فوائد دیکھ کر اسے خرید لے گا، جس کی وجہ سے اس کو دھوکہ ہوگا اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ۸

اشتہار میں تصاویر اور انسانی اعضاء کی نمائش

غیر جان دار چیز (جیسے درخت پھاڑ وغیرہ) کی تصویر دکھانا بلاشبہ جائز ہے۔ جہاں تک جان دار کی تصویر کے استعمال کا معاملہ ہے تو اس کا حکم جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ذرائع ابلاغ دو قسم کے ہیں: ایک وہ ذرائع ہیں جن میں اشتہار کا کوئی پرنٹ نہیں نکالا جاتا، جیسے سی ٹی وی، کمپیوٹر وغیرہ۔ ذرائع کی دوسری قسم وہ ہے جس میں اشتہار کا باقاعدہ پرنٹ نکال کر شائع کیا جاتا ہے۔ مثلاً اخبارات و رسائل اور سائنس بورڈ وغیرہ کے اشتہارات۔ دونوں قسموں کا حکم الگ الگ ہے۔

الکٹرانک میڈیا کے واسطے سے پبلیٹی کرتے وقت کسی جانور یا انسان کی تصویر دکھانا جائز ہے، بشرط کہ انسان کا ستر عریا نہ ہو۔ اب اگر مرد کی تصویر ہے تو اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ستر میں شامل ہوگا۔ اگر عورت کی تصویر ہے تو اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ دکھانا جائز نہیں ہے، البتہ ضرورت کے وقت اس کے باقاعدہ پاؤں دکھایے جاسکتے ہیں۔ ۹۔

پرنٹ میڈیا اور سائنس بورڈ کے اشتہارات کی تصویر کے بارے میں عورت کی تصویر کا وہی حکم ہے جو پہلے گزر چکا۔ اس قسم کے اشتہارات میں مرد، بلکہ کسی بھی جان دار کے چہرے کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تصویر کا اصل مدار چہرے پر ہے، لہذا جو تصویر سروالی ہو، جس میں کان، ناک اور آنکھ وغیرہ اعضاء صاف بننے ہوئے ہوں، وہ حرام ہے۔ اگر تصویر میں سر نہ ہو، یا سر ہو، مگر اس میں آنکھ، کان، ناک صاف بننے ہوئے نہ ہوں، بلکہ یہ اعضا مٹھے ہوئے ہوں، یا سر کے اوپر کوئی چیز لکا کر اس کو چھپا یا گیا ہو، یا پوری تصویر نہ ہو، بلکہ تصویر کے اعضاء میں سے کوئی ایک عضو ہو، مثلاً صرف آنکھ، کہنی، ہاتھ، بازو، پیر، پیٹھ وغیرہ، یا پشت کی جانب سے لی گئی تصویر ہو، جس میں چہرہ سامنے نہ ہو تو ایسی تصویر شرعاً منوع نہیں ہے، بشرط کہ مرد کی ہو۔ ۱۰۔

شریعت کی پاس داری

اشتہارات کے سلسلے میں حکومت وقت نے جن قوانین کی پابندی کو لازم قرار دیا ہے، ان کی پاس داری ضروری ہے۔ کیوں کہ اگر حکومت عوامی مصلحت کے لیے کوئی جائز قانون بنائے، جس کے ساتھ مملکت کے عوام کی مصلحت وابستہ ہو تو عوام کے لیے شرعاً اس کی پابندی ضروری ہے اور اس کی خلاف ورزی جائز نہیں۔ خلاف ورزی کرنے والا گنگار ہو گا۔ ۱۱۔

منکرات سے احتراز

پبلیٹی کے وقت جس طرح جھوٹ اور دھوکہ سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اسی طرح موسیقی اور گانوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پبلیٹی میں عورت کی آواز نہ ہو۔ اگرچہ عورت کی آواز فی نفسہ پر دہ میں داخل نہیں ہے، لیکن شرعاً یہ بات ناپسند کی گئی ہے کہ عورتیں بلا ضرورت اپنی آواز غیر محروم دوں تک پہنچائیں۔

اشتہار میں مبالغہ آرائی

کسی پروڈکٹ کی پبلیٹی کے لیے ایسا مبالغہ جائز نہیں ہے جو حقیقت کے خلاف اور جھوٹ کے زمرے میں آتا ہو اور خریداروں کو اس سے دھوکہ ہو سکتا ہو، مثلاً اگر کسی دو اسے درخت میں میں دو چار گھنٹے لگ جاتے ہوں، یا اس دو کو دو چار دفعہ استعمال کرنا پڑتا ہو تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس سے درد فوراً ختم ہو جائے گا، درست نہیں ہے، البتہ اگر ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو بہ ظاہر مبالغہ آمیز نظر آ رہے ہوں، لیکن وہ جھوٹ کے زمرے میں نہ آتے ہوں تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے ایز کنڈ یشنر کے بارے میں یہ کہا جائے کہ گرمیوں میں سردی کا مزہ، وغیرہ پبلیٹی کے لیے فرضی کہانی (ریلیسٹک) بنانے کا بھی بھی حکم ہے کہ وہ جھوٹ پر مبنی نہ ہو اور کہانی میں جن فوائد و خصوصیات کو بیان کیا جائے وہ واقعی ان مصنوعات میں پائی جا رہی ہوں تو ایسی کہانی بنانے کی گنجائش ہے۔ ۱۲۔

حوالہ و مراجع

- ۱۔ المجمع الاوسط للطبراني ۷، کنز العمال، ۵/۸۸۳-۸۲۱۰/۸۲۰، ترمذی ۳۰۲۰
- ۲۔ رواهۃ البیهقی عن ابن مسعود و الطبرانی فی الاوسط من حدیث آنس
- ۳۔ صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب کسب الرجل و عمله بیهقی، ۱۹۸۸، ترمذی ۱۲۵۲
- ۴۔ مسنداً بیهقی ۲/۱۷۳، حدیث نمبر، ۳۲۵۶، مسنداً حماد، ۱۲۱/۳، حدیث نمبر ۱۲۲۲۹ بیهقی،
- ۵۔ البانی ۱۰/۲۲۸، الذہبی نے امہد ب (۲۲۶۹/۸) میں لکھا ہے کہ اس کے روای ثقہ ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ (۲۸/۲) میں لکھا ہے: اس کے روای صحیحین (بخاری مسلم) کی شرط پر ثقہ ہیں۔ بیشی نے مجع الزوائد (۳۷/۱۹) میں لکھا ہے: اس کے روای صحیح کے روای ی ہیں۔ علامہ البانی نے بھی تخریج مشکلاً المصالح (۲۸۱۵) میں اس کو شیخین کی شرط پر صحیح فراز دیا ہے۔
- ۶۔ حلیۃ الاولیاء، ابویم احمدہانی، علی بن ابی طالب، حدیث نمبر ۲۵۲، المجمع الاوط، ۱۹۸۷
- ۷۔ المعاملات المالیۃ المعاصرۃ فی الفکر الاقتصادی الاسلامی ص: ۲۷
- ۸۔ تجارتی کمپنیوں کا لاتحریج عمل، ص ۲۳۹ تکمیلۃ فہلماہیم، ۱۲۲/۳
- ۹۔ تجارتی کمپنیوں کا لاتحریج عمل، ص ۲۳۱ جوهر الفقد، ۲۳۲/۳
- ۱۰۔ تکمیلۃ فہلماہیم، ۱۲۲/۳
- ۱۱۔ تجارتی کمپنیوں کا لاتحریج عمل، ص ۲۲۲

عصر حاضر میں اسلام کے علمی تقاضے

مولانا سید جلال الدین عمری

یہ مولانا کے ان مقالات کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات میں سہ ماہی تحقیقات اسلامی علی گروہ اور ماہ نامہ زندگی نوئی دہلی میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان مقالات میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اسلام کی طرف متوجہ ہو اور اس کی حقانیت تسلیم کرے تو ہمیں اس کے لیے بھرپور علمی اور فکری تیاری کرنی ہوگی اور اسلام کی روشنی میں موجودہ دور کے مسائل کا حل پیش کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ ان مقالات سے فکر و نظر کو تحریک ملے گی اور یہ اسلامی تحقیق کے عمل کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے۔

صفحات: ۸۰: قیمت ۵۲